



## سوال

(204) رکن یمانئ کو چھونا

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

طواف کرتے ہوئے کعبہ مشرفہ کے جنوب مغربی رکن کو ہاتھ سے چھونے یا اشارہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رکن یمانئ اور حجر اسود کے پاس کتنی تکبیریں پڑھی جائیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

طواف کرنے والے کے لئے حکم شریعت یہ ہے کہ وہ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانئ کو چھونے کیونکہ حجر اسود کو ہر چکر میں چھونا اور بوسہ دینا مستحب ہے حتیٰ کہ آخری چکر میں بھی بشرطیکہ مشقت کے بغیر آسانی سے ممکن ہو اور اگر مشقت ہو تو اس مقصد کے لئے بھیڑ کرنا مکروہ ہے اور اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ہاتھ یا عصا کے ساتھ اشارہ کیا جائے اور اللہ اکبر پڑھا جائے۔ رکن یمانئ کی طرف اشارہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اسے دائیں ہاتھ سے صرف چھونے کا حکم ہے بشرطیکہ آسانی سے ممکن ہو اسے بوسہ دینے کا بھی حکم نہیں ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانئ کو چھوتے وقت یہ کہا جائے "بسم اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر" اگر ہاتھ سے چھونے میں مشقت ہو تو پھر اشارہ و تکبیر کے بغیر اپنے طواف کو جاری رکھے کیونکہ اس صورت میں اشارہ اور تکبیر کی بابت نبی کریم ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہے جیسا کہ میں نے اپنی کتاب التفتیح والایضاح لکثیر من مسائل الحج والعمرة والزیارة میں بیان کیا ہے۔

تکبیر صرف ایک بار ہی ہوگی، بار بار تکبیر کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، سارے طواف میں دعائیں اور شرعی اذکار پڑھتے رہنا چاہئے اور طواف کے ہر چکر کو اس دعا پر ختم کرنا چاہئے، جس پر نبی کریم ﷺ ختم فرمایا کرتے تھے اور وہ حسب ذیل مشہور دعا ہے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرہ ۲/۲۰۱)

”اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشنا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔“

یاد رہے طواف اور سعی کے تمام اذکار اور دعائیں سنت ہیں، واجب نہیں ہیں۔

واللہ ولی التوفیق



مجلس البحث والدراسات  
محدث فتویٰ

## مقالات و فتاویٰ ابن باز

295 صفحہ

محدث فتویٰ